

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(مختصرات)

رزق

کی

حقیقت

فہم نارس الدین احمد
Ketabton.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاذْرُقْنَا اِثْمًا وَاذْرُقْنَا اِلْتِمَاحًا وَاذْرُقْنَا اِجْتِنَابًا

رزق کی حقیقت

(۲)

گو "نعت اور مصیبت کی حقیقت" ¹ نامی مضمون اجمالی طور پر نعتوں کی شکل میں انسان کے رزق، اور مصائب کی شکل میں انسان کی دنیاوی آزمائشوں یعنی فتنوں؛ دونوں پر محیط تھا؛ مگر عصر حاضر میں "کورونا" نامی عالمی ایمان سوز دجال فتنہ کے بطن سے؛ جو ایمان سلب کرنے والے عالمی رزق کے فتنہ نے جنم لیا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے بدلتے رویے؛ ناامیدیوں کے پھیلتے بادل اور مایوسیوں کے گہرے ہوتے ہوئے سہیوں نے مجھے اس مضمون کی تحریر پر مجبور کیا؛ گو میں بخوبی واقف ہوں کہ جس طرح جنگ کے دوران فوجی کے لیے تربیت حاصل کرنے کا نہیں بلکہ حاصل شدہ تربیت کے اطلاق کا وقت ہوتا ہے؛ اسی طرح دنیاوی فتنوں کے ظہور کے بعد ایک مسلمان کے لیے ایمان حاصل کرنے کا وقت نہیں بلکہ حاصل شدہ ایمان کے مظاہرہ کا وقت ہوتا ہے؛ اس کا ذاتی مشاہدہ "کورونا" کے عالمی فتنہ کے شکار دینی اور دنیاوی طبقہ کے افراد سے مکالمہ کی صورت میں میری یادداشت میں آج بھی موجود ہے؛ جن کے متاثر شدہ دل اور دماغ نقلی دلائل کی حقانیت کو سمجھنے اور قبول کرنے سے قاصر ہو گئے تھے ²۔ اسی باعث موجودہ حالات میں اس مضمون سے عملی استفادہ بھی شاید ایک قلیل تعداد ہی کر سکے۔ مگر چونکہ اس رزق کے عالمی دجال فتنہ کی انتہا دجال ملعون کے "دُعا" اور "دب" ہونے کے دعویٰ اور مسلمانوں کی ایک اکثریت کے اس دعویٰ کے اقرار پر اختتام پذیر ہوگی؛ تو اسی سے اس دینی اصطلاح کی اہمیت اور اس کی اصل حقیقت کا ادراک بہت لازمی امر ٹھہرتا ہے۔

✓ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَوَ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا أَنَّى مُنظَرُونَ [سورة الانعام: ۱۵۸] یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ

¹ ملاحظہ فرمائیں "قوا انفسکم واهلیکم" (ڈیجیٹل ایڈیشن چہارم) میں مضمون "گناہوں کی حقیقت"

² ملاحظہ فرمائیں "قوا انفسکم واهلیکم" (ڈیجیٹل ایڈیشن چہارم) میں مضمون "حق کے پیمان کی حقیقت"

ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں (مگر) جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہو گا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا یا اپنے ایمان (کی حالت) میں نیک عمل نہیں کئے ہوں گے (تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہو گا اے پیغمبر ان سے) کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

بحیثیت مسلمان قبولی طور پر تمام مسلمانوں کا اقرار ہے کہ:؛؛؛؛

آ. رازق واحد اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔

✓ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزّٰقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ [سورة النذاريات؛ ۵۸] خدا ہی تو رزق دینے والا اور آو اور مضبوط ہے۔

✓ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللّٰهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُم لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ [سورة سبا؛ ۲۴] پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا! اور ہم یا تم سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

✓ اَنْهٰنَّ هٰذَا الَّذِي يَّرْزُقُكُمْ اِنَّ اَصْحٰبَ رِزْقِهٖ بَلَّ لِحٰوَابِي عُنُقُوْا وَنُفُوْرًا [سورة الملک؛ ۲۱] بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکش اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔

✓ وَكَائِنٌ مِّنْ ذٰبِطَةٍ لَا تَحْصِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَّرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ [سورة العنكبوت؛ ۶۰] اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی۔ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ب. اور تمام اسباب اس کی مشیت کے تابع ہیں اور اس کی مشیت حکمت پر مبنی ہے؛ یعنی جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور یہ تنگی و فراخی مخلوق کی نسبت عین حق پر مبنی ہے۔

✓ ----- وَاللّٰهُ يَّرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِعَدْرِ حِمَابٍ [سورة البقرة؛ ۲۱۲] ----- اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

✓ اللّٰهُ لَهِيْفٌ يَّجَادُوْا يَّرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيْعَزِيْمُ [سورة الشورى؛ ۱۹] خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اور وہ زور والا (اور زبردست ہے۔

✓ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ [سورة سبا؛

۳۶] کہہ دو کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے (اور جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

✓ وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَحِثُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَبَصِيرٌ
[سورة الشورى؛ ۲۷] اور اگر خدا اپنے بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے۔ لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

✓ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ----- [سورة النحل؛ ۷۱] اور خدا نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔-----

ت. اور اس دنیاوی رزق کی حیثیت محض نمائش ہے نہ کہ حقیقی۔

✓ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاؤُمٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُهُمْ فَيَمُوتَ مُضْغًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ [سورة الحديد ۲۰؛ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشہ اور زینت (و آرائش) اور تمہارے آپس میں فخر (دستا ئش) اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب (و خواہش) ہے (اس کی مثال ایسی ہے) جیسے بارش کہ (اس سے کھیتی آتی اور) کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر (اے دیکھنے والے) تو اس کو دیکھتا ہے کہ (پک کر) زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں (کافروں کے لئے) عذاب شدید اور (مومنوں کے لئے) خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔

✓ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة النحل؛ ۹۶] جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ (کبھی ختم نہیں ہو گا) اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

ش. اور اس دنیاوی رزق کے ذریعے محض ہماری آزمائش مقصود ہے۔

✓ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ [سورة الملك؛ ۲] اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا

ہے۔ اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا ہے۔

✓ **كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ [سورة طه؛ ۸۱]** (اور حکم دیا کہ) جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔ اور اس میں **حد سے نہ نکلتا**۔ ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو گا۔ اور جس پر میرا غضب نازل ہو وہ ہلاک ہو گیا۔

✓ **وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقْنَا رِزْقًا خَيْرًا وَأَبْثَىٰ [سورة طه؛ ۱۳۱]** اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیائی زندگی میں **آرائش کی چیزوں** سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی **آزمائش کریں** ان پر نگاہ نہ کرنا۔ اور تمہاری پروردگار کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

ج. اور رزق کی تنگی یا فراخی کوئی کامیابی یا ناکامی کا معیار نہیں ہے۔

✓ **وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرُّونَ عَنْدَنَا ذُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ لِّغَفْوِهِمْ بما عملوا وَهُمْ فِي الْعُقُودَاتِ أَوْثُونَ [سورة سبأ؛ ۳۷]** اور **تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے تم کو ہمارا مقرب بنا دیں**۔ ہاں (ہمارا مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور عمل نیک کرے۔ ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بلا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

ح. اور اس مقرر کردہ رزق کے مکمل حصول سے پہلے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہی ہماری موت سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔

✓ **وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّقْتَهُ فُرْسَانًا وَهُمْ لَا يُفْعَرُونَ [سورة الانعام؛ ۶۱]** اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور **تم پر نگہبان مقرر رکھے رکھتا ہے**۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔

خ. اور اللہ وسعت سے زیادہ انسان کو کسی بھی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔

✓ **لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ --- [سورة البقرة؛ ۲۸۶]** خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ **تکلیف نہیں دیتا**۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔۔۔۔

مندرجہ بالا سات (۷) عقائد کے حامل ہونے کے باوجود ایک مسلمان کا اس دنیا کے حصول میں کفار کی طرح نہ صرف مشغول ہونا؛ بلکہ یعنی انہی کی طرح اس کو زندگی کا مقصد قرار دے دینا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ عقائد اس کی زندگی میں صرف معلومات کے درجہ میں ہیں اور رزق جیسی دینی اصطلاح کا علم درحقیقت اُسے نصیب ہی نہیں ہوا۔

اہم ترین سوال یہ ہے کہ دین میں رزق سے کیا مراد ہے؟

عمومی سطح پر صرف مال و دولت کی کثرت اور دنیاوی آسائشوں و آرائشوں کو ہی کل رزق کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے؛ جبکہ دینی نقطہ نظر سے اس دنیا کے مختصر قیام میں؛ ہر وہی یا کسی نعمت (اپنے وہی اور کسی اسباب سمیت)؛ جو جنین میں روح پھونکنے جانے سے لے کر ملک الموت کے روح قبض کرنے تک؛ اس دنیاوی زندگی میں انسان کی تقدیر میں رقم ہے؛ اس پر اللہ کے مہیا کردہ رزق کا اطلاق ہوتا ہے [وَمَا يَكْفُرُ مِنْ نِعْمَةٍ قَدَرًا اللَّهُ]۔۔۔ [سورۃ النحل؛ ۵۳] اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں۔۔۔ [اور ان نعمتوں کا شمار بھی انسان سے بعید ہے]۔۔۔ [وَإِنَّ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا]۔۔۔ [سورۃ ابراہیم؛ ۳۴]۔۔۔ اور اگر خدا کی نعمتیں گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔۔۔ [اور ان نعمتوں میں ان کے کسی اسباب بھی شامل ہیں [وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِجِيغًا وَمِنْهُ]۔۔۔ [سورۃ المائدۃ؛ ۱۳] اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے (حکم) سے تمہارے کام میں لگا دیا۔۔۔ [اور وہی اسباب بھی]۔۔۔ [وَجَعَلَ لَكُمْ الشِّعْرَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَقْنِدَةَ]۔۔۔ [سورۃ النحل؛ ۷۸]۔۔۔ اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اعضا بخشے۔۔۔ [اور ان کسی اور وہی اسباب کے ذریعے دنیاوی نعمتوں کا حصول بھی انسان کے رزق میں شامل ہے]۔۔۔ [وَمَنْ كَانَتْ يَدَاكَ يُرِيدُ حَزَنَ الثُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا]۔۔۔ [سورۃ الشوری؛ ۲۰]۔۔۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہناں ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیں گے۔۔۔ [اور دینی نعمتوں کا حصول بھی شامل ہے]۔۔۔ [مَنْ كَانَتْ يَدَاكَ يُرِيدُ حَزَنَ الْأَخْزَرِ نُؤْتِيهِ لَهْفًا فِي حَزْنِهِ]۔۔۔ [سورۃ الشوری؛ ۲۰] جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہناں ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے۔۔۔ [اور حکمت کو باقی تمام نعمتوں پر فضیلت دے کر واضح کر دیا کہ رزق میں موجود نعمتوں میں باہم تفاوت بھی موجود ہے]۔۔۔ [وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا]۔۔۔ [سورۃ البقرۃ؛ ۲۶۹]۔۔۔ اور جس کو دانائی ملی ہے حکم اس کو بڑی نعمت ملی۔۔۔ [

خلاصہ کلام یہ ہے کہ رزق صرف "الرزاق" کے اختیار میں ہے؛ رزق کی تنگی اور کشائش

کا تعلق خالصاً اللہ سبحان و تعالیٰ کے تقدیری امور میں سے ہے؛ اور رزق کا دائرہ و اجزاء پر محیط ہے؛ جز و اول: رزق کے کسی اسباب (وہ اسباب جو محنت سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً علم؛ فن؛ ہنر؛ صناعی؛ تجارت وغیرہ) اور وہی اسباب پر (وہ اسباب جو خالصاً اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً پینائی؛ ساعت؛ عقل؛ حکمت؛ برکت وغیرہ) اور جز و دوم: اسباب کے نتیجے میں حاصل کردہ کسی نعمتوں (وہ نعمتیں جو محنت سے حاصل ہوتی ہیں مثلاً ایمان؛ مال؛ شہرت؛ سیادت؛ مال غنیمت وغیرہ) اور وہی نعمتوں پر (وہ نعمتیں جو خالصاً اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہیں مثلاً والدین؛ پیدائشی اسلام؛ اولاد؛ خاندان؛ نیک زوج وغیرہ)۔

یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ؛ اگر رزق کی تنگی اور کشائش کا تعلق خالصاً اللہ سبحان و تعالیٰ کے تقدیری امور میں سے ہے؛ تو انسان کی محنت کا کیا مقام ہے؟

تقدیر کا مفصل بیان "تقدیر کی حقیقت"³ کے مضمون میں ہو چکا ہے؛ خواہشمند حضرات وہیں اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں؛ اس مضمون کی مناسبت سے تو محض اس بات کا ادراک کرنا لازم ہے کہ انسان کی محنت؛ اُس نیت (یعنی پختہ ارادہ) کی عملی شکل کا نام ہے؛ جس کے ذریعے وہ تقدیر میں اپنے لیے مختص رزق کے جز اول (یعنی وہی و کسی اسباب) کے صحیح یا غلط استعمال سے تقدیر میں اپنے لیے مختص رزق کے جز دوم (یعنی دینی و دنیاوی نعمتوں) کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح رزق کے یہ دونوں جز تقدیر کے تابع ہیں؛ یعنی انسان کی نیت (یعنی پختہ ارادہ) کا عملی شکل اختیار کرنا بھی تقدیری امور میں سے ہے۔ اور انسان اخروی طور پر اپنی اسی نیت (یعنی پختہ ارادہ) کی بنیاد پر ابدی نعمتوں یا عذابوں کا حقدار ٹھہرایا جائے گا اور اس دنیا میں وقوع پذیر محنت (یعنی ظاہری عمل) کی حیثیت ثانوی اور محض آخرت میں گواہان⁴ کے ذریعے اتمام حجت کی سے ہے۔ اسی سے دین میں نیت کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی تمام دنیاوی نعمتوں کو بھی نیت کی بدولت دینی نعمتوں میں تبدیل کر سکتا ہے⁵۔ (مثلاً اگر دولت کی نعمت کے حصول کے لیے محنت کی نیت "اس کے ذریعے اللہ کے پسندیدہ ابواب میں انفاق" ہو؛ اسی طرح اگر صحت کی نعمت کے حصول کے لیے محنت کی نیت

³ ملاحظہ فرمائیں "قوا انفسکم و اہلیکم (ڈیجٹل ایڈیشن چہارم) "میں مضمون "تقدیر کی حقیقت"

⁴ یعنی اس کے اعمال کی کتاب؛ اگر اگاتین؛ اس کے محافظ فرشتے؛ اس کے اپنے ہی جسم کے اعضا؛ اور زمین کا وہ کلا اہماں وہ عمل سرزد ہوا

⁵ ملاحظہ فرمائیں "قوا انفسکم و اہلیکم (ڈیجٹل ایڈیشن چہارم) "میں مضمون "ایمان کی حقیقت"

"اس کے ذریعے اللہ کی عبادت میں کثرت" ہو؛ خصوصاً "اس کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ میں شکر ت مقصود" ہو؛ اور دنیوی علم کی نعمت کے حصول کے لیے محنت کی نیت "اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت" ہو؛ وغیرہ۔

اور چونکہ رزق کے دائرہ کے حدود و قعود معین شدہ ہے اور اس مقدر شدہ رزق کے دائرہ میں کمی یا اضافہ ناممکنات میں سے ہے؛ تو انسان اس معین شدہ دائرہ میں سے جس اقلیم (یعنی دینی یا دنیوی) کی نعمت کے حصول کی نیت اور محنت کرتا ہے تو یہ حاصل کردہ نعمت اپنے مدمقابل اقلیم والی نعمت کی وارث قرار پاتے ہوئے؛ اس کے رزق کے حصہ پر قابض ہو جاتی ہے؛ تاکہ رزق کا مجموعی دائرہ ناقابل تغیر رہے۔ مثلاً اگر کفر کے باعث؛ ایک انسان کا حتمی مطلوبہ ہدف قرآن اور حدیث کے موافق نہیں؛ بلکہ اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور آسانیوں و آرائشوں کا حصول ہو؛ تو قرآن حکیم کے مطابق اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی حکمت اور ابدی تدبیر کی بنیاد پر؛ اس کی محنت کو قبول فرماتے ہوئے اور اس کے رزق کے دائرہ کو ناقابل تغیر رکھتے ہوئے؛ اُس کے ممکنہ دینی رزق کو اس کے مطلوبہ دنیوی رزق میں تبدیل فرمادیتے ہیں؛

✓ مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة هود؛ ۱۵ - ۱۶] جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا کوئی چیز نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے، سب ضائع۔

اسی قرآنی مثال کا اطلاق ہر فاسق؛ فاجر؛ مفسد؛ ظالم اور منافق مسلمان پر بھی بیحد ہو سکتا ہے؛ یعنی کہ جو جتنا اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور آسانیوں و آرائشوں کی نعمتوں کے حصول کی نیت اور محنت کے ذریعے اپنے دنیوی رزق میں اضافہ کا خواہاں ہو گا؛ اتنا ہی اس کے رزق کے دائرہ میں موجود دینی نعمتوں میں کمی واقع ہوتی جائے گی (بشمول ایمان کی نعمت کے)؛ یہاں تک کہ قبر میں اس کو جنت کا وہ مقام اپنی کل نعمتوں کے ساتھ دکھایا جائے گا؛ جس کو وہ اپنے رزق میں موجود دینی نعمتوں کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا؛

✓ ----- اور بدکار بندہ اپنی قبر میں خوف زدہ اور گھبراہٹا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے پس اس سے پوچھا جاتا ہے "تو کس دین میں تھا؟"؛ وہ کہتا ہے "میں نہیں جانتا"؛ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے "یہ آدمی (محمد ﷺ)"

کون تھے؟" وہ کہتا ہے "میں لوگوں کو جو کچھ کہتے سنتا تھا وہی میں کہتا تھا"؛ اس کے بعد اس کے لئے بہشت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس سے وہ بہشت کی تروتازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے "اس چیز کی طرف دیکھ جسے اللہ نے تجھ سے پھیر لیا ہے"؛ پھر اس کے لئے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ کے تیز شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ اور اس سے کہا جاتا ہے "یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس ٹنک کے سبب جس میں مبتلا تھا اور جس پر تو مر اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا"۔ [سنن ابن ماجہ - جلد سوم - زہد کا بیان - حدیث ۱۱۴۸]

اور اس کے برخلاف جس مومن مسلمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے؛ تو اللہ سبحان و تعالیٰ خود اس کے رزق میں موجود دنیاوی نعمتوں کے حصول سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور بدلے میں اُس کے رزق کے دائرہ کو ناقابلِ تغیر رکھتے ہوئے؛ اُس کی دینی نعمتوں میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔

✓ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے بچاتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے"۔ [مشکوٰۃ شریف - جلد چہارم - آرزو اور حرص کا بیان - حدیث ۱۱۴۴]

اور جو اشخاص اپنی نیت؛ اپنی محنت اور اس کے نتیجے میں دینی و دنیاوی نعمتوں کی باہم کشاکش کے ربط سے جہالت میں مبتلا ہیں؛ انہیں کے متعلق قرآن کا فرمان ہے کہ

✓ قُلْ هَلْ يُبْتَغَىٰ بِالْأَمْوَالِ أَعْمَالًا ﴿۱۰۳﴾ الَّذِينَ صَلَّىٰ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ ﴿۱۰۴﴾ [سورة الكهف؛ ۱۰۳ - ۱۰۴] کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی۔ اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔

حقیقی کہ روز محشر فاسق؛ فاجر؛ منافق؛ ظالم اور مفسد تو کیا بڑے سے بڑا اولیٰ بھی ان دنیاوی نعمتوں پر افسوس کرے گا جن سے مستفید ہونے کے عوض وہ ان کے مساوی دینی نعمتوں کے عملی حصول سے محروم رہ گیا۔

✓ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "کوئی شخص ایسا نہیں جو موت کے بعد شرمندہ نہ ہو"؛ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ کس چیز پر ندامت ہوگی"؛ آپ ﷺ نے فرمایا

"اگر تم نیک ہو تو نادام ہو گا کہ میں نے زیادہ عمل کیوں نہ کیا اور اگر گناہ گار ہے تو اس بات پر ندامت ہو گی کہ میں گناہ سے کیوں نہ بچا"۔ [جامع ترمذی - جلد دوم - گواہوں کا بیان - حدیث

[۲۹۶]

عصر حاضر میں اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم مندرجہ بالا معلومات کو ایک حدیث اور عصر حاضر کی دو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؛ کہ شاید بات دل میں اتر جائے۔۔۔۔۔

✓ حضرت ابواسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے کہا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیر و سیاحت کی اجازت مرحمت فرمائیے۔" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری امت کی سیاحت اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے"۔ [سنن ابوداؤد - جلد دوم - جہاد کا بیان - حدیث ۴۲۱]

امرو واقعہ ہے کہ ایک عبادت گزار انسان کی حالت قیام میں دینی زندگی حالت سفر کی نسبت کہیں بہتر اور مکمل ہوتی ہے؛ تو مندرجہ بالا حدیث میں یہی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ سفر جس کے نتیجے میں کوئی شرعی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو وہ عین اور دین میں ناپسندیدہ درجہ میں ہے کیونکہ ایسی صورت حال میں انسان اختیاری طور پر غیر ضروری دنیاوی نعمت کے حصول کے باعث اپنے ہی دینی رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے اور دین میں شرعی سفر دو ہی ہیں؛ اول اللہ کے دینی یا دنیاوی فضل کی تلاش میں زمین پر سفر کرنا [۔۔۔۔۔ آخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔۔۔۔۔ [سورة المزمّل؛ ۲۰]۔۔۔۔۔ بعض خدا کے فضل کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں۔۔۔۔۔] [یعنی شرعی تجارت؛ دین کی خاطر ہجرت؛ حج و عمرہ؛ دعوت دین؛ علم کا حصول] یا دوم اللہ کے راستے قتال فی سبیل اللہ کے واسطے سفر کرنا [۔۔۔۔۔ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔۔۔۔۔ [سورة المزمّل؛ ۲۰]۔۔۔۔۔ اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔۔۔۔۔] [یعنی اقدامی جہاد فی سبیل اللہ؛ دفاعی جہاد فی سبیل اللہ]۔ تو ہر وہ سفر جس کے نتیجے میں کوئی شرعی ضرورت پوری ہوتی ہو؛ وہ عین مطلوب اور پسندیدہ درجہ میں ہے کیونکہ ایسی صورت حال میں انسان اختیاری طور پر اپنی حالت قیام کی دنیاوی نعمتوں میں ظاہری کمی کے باوجود؛ اُن نعمتوں کے ثمرات ضائع کیے بغیر؛ مزید دینی نعمتوں کے ذریعے اپنے ہی دینی رزق میں اضافہ کا سبب بنتا ہے؛ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛

✓ "بندہ جب بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان عمادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جنہیں وہ

حالت اقامت یا سحت میں ادا کیا کرتا تھا"۔ [مشکوٰۃ شریف - جلد دوم - جنازوں کا

بیان - حدیث ۲۳

عصر حاضر کی پہلی مثال کا تعلق دنیاوی طبقہ سے ہے؛

عصر حاضر میں مسلمان نوجوانوں کی اکثریت مسلمان ممالک سے ترقی یافتہ کفریہ ممالک کی طرف؛ تجارت کے مقصد سے نہیں؛ بلکہ دنیاوی کشائش کے حصول کے لیے ہجرت کرتی نظر آتی ہے اور یہ بات بھی مشاہدہ کی ہے کہ اگر ان کی ہجرت سے پہلے اور بعد کی زندگی کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً ان کی انتہائی بڑی اکثریت اپنے مطلوبہ ہدف میں کامیاب بھی نظر آتی ہے اور اس کشائش کا عمومی جواز معاشرہ میں یہی معروف ہے کہ "جہاں رزق ہو انسان وہیں پہنچ جاتا ہے۔"

سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی جگہ کی تبدیلی رزق میں کشائش کی باعث ہے؛ یا کفریہ ممالک میں جو اختیاری اور غیر اختیاری دینی امور اس کی زندگی میں سے حذف ہو گئے؛ انہیں کے عوض اس کے دنیاوی نعمتوں والے رزق کے جزو میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مثلاً اکثر مسلم ممالک میں آج بھی؛ اعلانیہ دین پر کاربند رہنے کی نعمت؛ باجماعت نماز کی نعمت؛ اذان کی آواز کی نعمت؛ رمضان کی اجتماعی سطح پر تعظیم اور تقدس کی نعمت؛ عیدین کے تہواروں کی نعمتیں؛ قربانی کی نعمت؛ جہاد فی سبیل اللہ کی نعمت؛ پردہ کی نعمت؛ بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر سے تحفظ کی نعمت؛ والدین کے حقوق کی ادائیگی کی نعمت؛ اولاد کی تربیت کی نعمت؛ قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کی نعمت؛ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی نعمت؛ امر بالمعروف اور نہی المنکر کی نعمت؛ گناہ کو اعلانیہ طور پر قوی اور فعلی طور پر گناہ سمجھنے کی نعمت؛ اعلانیہ گناہوں میں ملوث افراد سے قوی اور فعلی برأت کی نعمت؛ حربی کفار سے اعلانیہ نفرت کی نعمت اور ان ہی جیسی بے شمار مزید انفرادی اور اجتماعی دینی نعمتیں موجود ہیں؛ جن کو اختیاری طور پر ترک کرنے سے ہجرت کرنے والے کے رزق میں جو خلا پیدا ہوتا ہے؛ اس کو اللہ سبحان و تعالیٰ؛ اس کی محنت کے عوض؛ اس کی دنیاوی نعمتوں میں وسعت سے پُر فرماتے ہوئے؛ اس کے رزق کے مجموعی دائرہ کو ناقابل تغیر رکھتے ہیں۔

دوسری عصر حاضر کی مثال کا تعلق دینی طبقہ سے ہے؛

✓ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ سے سخت آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا انبیاء کرام ﷺ پر، حضرت ابو

سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا؛ ان کے بعد؟ فرمایا؛ علماء پر؛ انہوں نے پوچھا؛ ان کے بعد؟ فرمایا صالحین

پر-----[المستدرک؛ جلد اول؛ کتاب الایمان؛ ۱۱۹]

اگر دنیاوی طبقہ دنیاوی مال و دولت کی نعمت کی چاہت میں اپنے دینی رزق میں کمی کے لیے اختیاری طور پر تیار ہے؛ تو یقیناً آج ہمارے دینی طبقہ کی اکثریت بھی دنیاوی سکون کی نعمت کی چاہت میں اپنے دینی رزق میں کمی کے لیے اختیاری طور پر سرگرداں نظر آتی ہے۔

یعنی ہمارے دینی طبقہ کا عمومی دنیاوی سکون؛ وراثت انبیاء کی نعمت میں اختیاری کمی کے نتیجہ میں؛ مختلف انواع کے سکون اختیار کرنے کا مجموعہ ہے مثلاً؛ طائفوں کی حمایت کرتے ہوئے خالص توحید کی نعمت کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ جمہوریت کی حمایت کرتے ہوئے خلافت کی نعمت کی فرضیت کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ قومیت کی حمایت سے امت کی نعمت کی فرضیت کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ قرضوں کی بنیاد پر معاشی نظام کی حمایت سے اسلامی معاشی نظام کی نعمت کی فرضیت کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون (صرف سود کی زبانی کلامی مذمت کافی نہیں؛ بلکہ موجودہ معاشی نظام کی بنیاد ہی یعنی قرض کی بنیاد پر تخلیق زر کے باعث حرام ہے)؛ حمیت اسلامی کے منافی امن و آشتی کی حمایت میں جہاد فی سبیل اللہ کی نعمت کی فرضیت کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ بے دلیل مکتب فکر کی حمایت میں حق کے ادراک کے باوجود اس کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ مسجد کمیٹیوں اور ملکی اور غیر ملکی معاونین سے مداہنت⁶ کے باعث بر محل حق نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ سائنس و ٹیکنالوجی سے مرعوبیت کے باعث کفریہ اقوال اور اعمال نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ دین کے سرکاری نقطہ نظر سے مداہنت کے باعث ضروریات دین کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ غیر شرعی عدالتی نظاموں کی حمایت اور مداہنت کے باعث شریعت کی فرضیت نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون؛ عصر حاضر کے تناظر میں الولاء اور البراء⁷ کے مسائل نہ بیان کرنے کی وجہ سے سکون۔

ان تمام دنیاوی سکون کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہی اس طبقہ کے **دنیاوی سکون کی نعمت میں وسعت اور وراثت**

⁶ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں؛ "ذاتی منفعت، طلب دنیا اور لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کے معاملے میں جو نرمی کی جائے، وہ مداہنت ہے۔" [الْوَعْدَةُ الْكَمَلَات، ج ۳، ص ۱۴۳]۔

⁷ ملاحظہ فرمائیں "قوا انفسکم واهلیکم (ڈیجیٹل ایڈیشن چہارم)" میں مضمون "الولاء والبراء کی حقیقت"

انبیاء کی نعمت میں کمی کا باعث ہے؛ یقینی امر ہے کہ حق بیان کرنے سے ایک عالم کے دنیاوی سکون کی نعمت میں کمی؛ اور حق بیان کرنے اور اس پر صبر کرنے کے باعث ہی اس کی وراثت انبیاء کی نعمت میں اضافہ واقع ہوتا ہے؛ [--- وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالْقَبْرِ [سورة العصر؛ ۳] --- اور آپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔] اور اسی کے ذریعے اس کے رزق کا مجموعی دائرہ ناقابل تغیر رہتا ہے۔

یاد رہے کہ مندرجہ بالا دونوں مثالوں میں مرتب کردہ فہرستیں حتمی نہیں ہے بلکہ ہر ذی روح بخوبی اندازہ رکھتی ہے کہ وہ کس دینی نعمت کے عوض کون سی دنیاوی نعمت کی وسعت کا سودا کر رہی ہے۔

[بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [سورة الفیامہ؛ ۱۳] بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔]

یہاں رزق میں برکت اور زیادتی کا فرق واضح کرنا لازم ہے کیونکہ اکثریت کے نزدیک دنیاوی نعمتوں میں زیادتی [”ہذا من فضل ربی“] ہی رزق میں برکت کے مترادف ہے۔

قرآن حکیم میں رزق میں **برکت** کو ایمان اور تقویٰ کا حاصل بتایا ہے؛

✓ وَلَوْ أَنَّهُ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [سورة الاعراف؛ ۹۶] اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے۔ تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی۔ سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

جبکہ رزق میں **زیادتی** کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اختیاری روگردانی کا حاصل بتایا ہے؛

✓ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فِيمَا هُمْ يُمْتَلِسُونَ [سورة الانعام؛ ۶۴] پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ برکت وہ دینی نعمت ہے؛ جو رسول اللہ ﷺ کے گھر میں دودو مہینے چولہا ٹھنڈا رہنے کے باوجود نازل ہو رہی تھی؛ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود مدینہ منورہ پر نازل ہو رہی تھی۔ اس

برکت کی نعمت کے مشاہدہ کی لیے ایمان لازم ہے؛ جس کی کمی کے باعث جس طرح رسول اللہ ﷺ کے دور میں یہ برکت منافقین کو نظر نہیں آتی تھی بعینہ ہماری عوام و خواص کی اکثریت کو بھی یہ برکت عصر حاضر میں طالبان کے افغانستان میں نازل ہوتی نظر نہیں آسکتی۔ اور جس طرح رسول اللہ ﷺ کے دور میں منافقین کو امید تھی کہ اسی معاشی کمزوری کے باعث مسلمان ختم ہو جائیں گے؛ اسی امید پر آج کا منافق بھی پریشانی میں زندہ ہے کیونکہ مؤمنین کی ظاہری ناکامی میں ہی اس کی منافقانہ زندگی کا جواز پوشیدہ ہے۔

✓ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّٰی يَنْفَقُوا وَلِلّٰهِ حَرَائِجُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَنْفِقُونَ۔ [سورة المنافقون؛ 4] یہی ہیں جو کہتے

ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس (رہتے) ہیں ان پر (کچھ) خرچ نہ کرو۔ یہاں تک کہ یہ (خود

بخود) بھاگ جائیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے۔

بہر کیف برکت سے مراد ہمیشہ کا فقر و فاقہ نہیں ہے؛ بلکہ برکت اس جوہر یعنی اس پھل کا نام ہے؛ جو رزق میں موجود دنیاوی نعمتوں کے استعمال سے دینی نعمتوں کے حصول کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور چونکہ نعمتوں میں اس حسن مراتب کا حصول صرف حکمت سے ممکن ہے؛ اسی لیے قرآن حکیم میں حکمت کو "خیر اکثر" سے تشبیہ دی گئی۔ یہی وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی حکمت اور اس کے نتیجے میں رزق میں پیدا ہونے والی برکت کی نعمت ہے؛ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ؛ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ جیسے کثیر المال صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔

اس کے برخلاف انسان کے رزق میں زیادتی کا تعلق؛ اس کی دینی نعمتوں میں کمی یا جمود کے باوجود؛ دنیاوی نعمتوں میں اضافہ سے ہے؛ اور دین میں اس کو استدراجی کیفیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

✓ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں

اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ استدراج ہے، پھر نبی ﷺ نے یہ آیت [سورة الانعام

۴۴] تلاوت فرمائی کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی

تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے، حتیٰ کہ جب وہ خود کو سٹلے والی نعمتوں پر اترانے

لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ ناامید ہو کر رہ گئے۔ [مسند احمد - جلد ہفتم - حدیث

[۳۶۵]

دنیاوی طبقہ کو مال و دولت کے حساب سے اور دینی طبقہ کو اپنی زندگیوں میں سکون کے حوالے سے؛ اس قرآنی آیت اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی روشنی میں؛ محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا تناسب کیا ہے؟ اور کہیں وہ اختیاری جہالت کے سبب استدراج کا شکار نہیں ہو رہا؟۔

اور یہ رزق کی زیادتی اپنی انتہائی نوعیت پر پہنچ جاتی ہے جب دینی نعمتوں کے ذریعے ہی دنیاوی نعمتوں کا حصول کیا جائے؛ مثلاً دینی علم کا حصول ایک بہت بڑی دینی نعمت ہے؛ مگر اسی دینی نعمت سے اگر کوئی عالم دنیاوی نعمتوں کا حصول ہی اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دے؛ جہاں دینی سبیل اللہ میں شرکت ایک بہت بڑی دینی نعمت ہے؛ مگر اسی دینی نعمت سے اگر کوئی مجاہد دنیاوی نعمتوں کا حصول ہی اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دے؛ دینی رہنمائی ایک بہت بڑی دینی نعمت ہے؛ مگر اسی دینی نعمتوں سے اگر کوئی پیر و مرشد دنیاوی نعمتوں کا حصول ہی اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دے وغیرہ۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا؛

✓ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُمَلِّكًا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ [سورة آل عمران، ۱۴۵] اور کسی
شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے (اس نے موت کا) وقت مقرر کر کے لکھ رکھا
ہے اور جو شخص دنیا میں (اپنے اعمال کا) بدلہ چاہے اس کو ہم بہتیں بدلہ دے دیں گے اور جو
آخرت میں طالبِ ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب (بہت
اچھا) سہلہ دیں گے۔

مندرجہ بالا آیت کا تعلق ان اعمال سے ہے؛ جو اس دنیا میں دینی نعمتوں کے حصول کے لیے رائج ہیں مگر اخروی ثواب کے لیے اپنی دینی نیت پر معلق ہیں؛ برخلاف دنیاوی نعمتوں کے حصول والے اعمال تو اپنی دنیاوی نیت کے باعث؛ مسلمان اور کافر کو یکساں طور پر میسر ہیں اور آخرت کے ثواب کی بشارت سے محروم بھی ہیں۔ اسی اصول کی تائید مندرجہ ذیل حدیث میں بھی موجود ہے؛ جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

✓ "جس شخص نے وہ علم کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لئے
سیکھا کہ اس کے ذریعہ اسے دنیا کا کچھ مال و متاع مل جائے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا
سکے گا قیامت کے دن۔ یعنی جنت کی ہوا"۔ [سنن ابوداؤد - جلد سوم - علم کا بیان -

حدیث ۲۷۲]

جو عالم اپنی عملی زندگی میں؛ اپنے دنیاوی سکون کی نعمت کی قربانی دیتے ہوئے؛ اپنے حاصل کردہ علم پر حسب استطاعت کاربند نہیں ہے؛ تو یقیناً اگر ابتدا میں اس کی نیت دنیا کے حصول کی نہیں بھی تھی؛ تو کم از کم اللہ کے تقویٰ کے حصول کے لیے بھی خالص نہیں تھی؛ اور اب اس کی موجودہ عملی زندگی ہی اس کی نیت کی علم بردار ہے؛ اور چونکہ "۔۔۔ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے [صحیح بخاری - جلد سوم - دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان - حدیث ۱۳۴۰]" جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے؛ تو ظاہری طور پر مندرجہ بالا حدیث میں بیان کردہ وعید کی روشنی میں اب اس عمل کے جائز ہونے کی صرف دو ہی صورتیں ہیں؛ یعنی عِبْرَةٌ بِنَافِعِ [طالب حرام نہ ہو] وَلَا عَاقِبَةَ [رخصت کی مقدار سے آگے نہ بڑھے]؛ یعنی نیت میں اس عمل کو قابل وعید مانتے ہوئے؛ دینی نعمتوں میں سے صرف ضروریات کے حصول کی حد استغناء اٹھائے؛ نہ کہ نیت میں اس عمل کو جائز قرار دیتے ہوئے؛ اپنی خواہشات کے حصول کو ہی اپنی دینی نعمتوں کا مقصود ٹھہرا دے۔ اس اصول سے ان دنیاوی نعمتوں (چاہے ان کا تعلق ضروریات سے ہو یا خواہشات سے) کو استثناء ہے؛ جو گود دینی نعمتوں کے ذریعے ہی حاصل ہوں مگر نہ تو ان کے حصول کی نیت ہو اور نہ ہی ان کی مقدار متعین ہو؛ بلکہ کچھ صورتوں میں تو یہ دنیاوی نعمتیں افضل ترین ہیں؛ مثلاً جہاد فی سبیل اللہ کی نتیجہ میں مال غنیمت؛ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

✓ ---- میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے۔۔۔ [مسند احمد - جلد سوم -

حدیث ۱۱۹۴]

یہ دونوں اصول (یعنی نہ مال کی نیت اور نہ ہی اس کی مقدار متعین) ہر اس مال کی نعمت پر لاگو ہیں؛ جس پر معروفاً اجرت کی اصطلاح (یعنی عمل سے بیشتر ہی مال کی نیت اور اس کی متعین مقدار) کا اطلاق نہیں ہوتا؛

✓ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ "رسول اللہ ﷺ مجھ کو کچھ

دیتے تو میں کہتا؛ اس شخص کو دے دیجئے؛ جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو؛" آپ ﷺ فرماتے کہ "جب اس

مال میں سے کچھ تم کو ملے؛ اس حال میں کہ تمہارا دل اس میں نہ لگے اور تم نہ مانگنے والے ہو تو

لے لو اور اگر نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔" [صحیح بخاری - جلد اول - زکوٰۃ کا بیان

- حدیث ۱۴۲۱]

گو عمومی طور پر معروف ہے کہ یہ وقت کی اجرت ہے نہ کہ علم کی اشاعت کی؛ مگر اس حیلہ کے قابل عمل ہونے کے لیے لازم ہے

کہ رسول اللہ ﷺ؛ صحابہؓ؛ تابعینؒ؛ تابعینؒ؛ تابعینؒ کی سنت سے علم کی اشاعت کا وہ طریقہ بھی معلوم ہو جو دین میں وعید کا مستحق بھی ہو اور وقت کا محتاج بھی نہیں ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دجالی دور کے اختتامی مراحل میں سے گزر رہے ہیں اور اب دجالی فتنوں کی شدت میں انتہائی تیز اضافہ ہو جائے گا۔ دجالی اور غیر دجالی فتنہ میں فرق؛ اس فتنہ کے دائرہ کار پر محیط ہے؛ یعنی اگر فتنہ محدود لوگوں کو ایک علاقائی سطح پر متاثر کرے اور کوئی انفرادی سطح پر ہجرت کر کے اس علاقہ کو چھوڑ دے تو اس فتنہ سے محفوظ ہو جائے؛ تو ایسا فتنہ غیر دجالی فتنہ کہلائے گا؛ جبکہ دجال کی مانند؛ دجالی فتنہ کا اثر عالمی سطح پر نظر آئے گا اور محض ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف انفرادی سطح پر ہجرت کرنا؛ اس فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے ناکافی ہو گا اور نہ ہی معاشرتی سطح پر اس کے عالمی اثرات سے بچاؤ ممکن۔ اس حقیقت کا ادراک اس لیے لازم ہے؛ کہ غیر دجالی فتنوں کے برعکس دجالی فتنوں سے اپنے تحفظ کے لیے؛ ہمیں لازماً اپنے باطنی ایمان کے اندر تبدیلی لانی ہوگی اور دین کی رسی انتہائی مضبوطی سے تھامنی پڑے گی؛ چاہے اس کے لیے کتنی ہی دنیاوی نعمتوں کا ظاہری خسارہ برداشت کرنا پڑے؛ ورنہ دونوں جہانوں کا یقینی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔

عصر حاضر میں رزق میں موجود "معیار زندگی کی نعمت میں کمی" کا فتنہ نہ ہی علاقائی ہے؛ کہ ہجرت کر کے انفرادی طور پر اس سے تحفظ حاصل کر لیں؛ اور نہ ہی محدود افراد اس کا شکار ہے؛ کہ معاشرے اس کے عالمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں؛ بلکہ یہ عین دجالی فتنہ ہے اور اس کا دائرہ کار اور اثر عالمی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔

اس فتنہ کے دو ہی متاثرین ہیں؛ جن میں سے اکثریت کے حق میں یہ معیار زندگی کی کمی اور اقلیت کے حق میں معیار زندگی کے اضافہ کی صورت میں انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بد قسمتی سے جہاں معیار زندگی کمی والے؛ شیطان کے فقر و فاقہ کے ڈراؤں سے خوفزدہ اور اللہ کے فضل سے مایوس نظر آتے ہیں [الشَّيْطَانُ يُجَدِّدُ الْفَقْرَ وَيَأْتِيكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يُجَدِّدُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [سورة البقرة؛ 378] (اور دیکھنا) شیطان (کا کہنا نہ مانا وہ) تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور خدا بڑی کشائش والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے۔] وہیں معیار زندگی میں اضافے والے اپنی صلاحیتوں اور خوش بختی کے زعم میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ [قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

عندی۔۔۔ [سورۃ القصص؛ ۷۸] بولا کہ یہ (مال) مجھے میری دانش (کے زور) سے ملا ہے۔۔۔

دونوں گروہ متاثرین کو اپنی اس حالت کو اعتدال پر لانے کے لیے ایمان بالغیب کی اشد ضرورت ہے؛ ورنہ پہلا گروہ مایوسی کے باعث دجال اکبر کے کفر کا شکار ہو جائے گا اور دوسرا گروہ اپنے معیار زندگی کی حفاظت میں اپنی نفس پرستانہ دانش کی وجہ سے دجال اکبر کی ربوبیت کے دعویٰ کو مسترد کرنے سے قاصر ہو گا۔

پہلے گروہ متاثرین کو اپنے معیار زندگی کی کمی کو مثبت انداز میں لیتے ہوئے؛ اس امید پر اپنے ایمان کی افزائش اور اعمال صالحہ کی کثرت میں جُت جانا چاہیے؛ کہ شاید ان کی اسی نیت کے باعث؛ کسی بھی درجہ میں ان کی نسبت اُن افراد کے ساتھ ہو سکے جن کا ذکر مندرجہ ذیل حدیث میں موجود ہے؛

✓ ----- اور دجال کے نکلنے سے تین برس پہلے تھوہو گا ان تینوں سالوں میں لوگ بھوک سے

سخت تکلیف اٹھائیں گے پہلے سال میں ----- مگر جو اللہ چاہے؛ لوگوں نے عرض کیا "یا رسول

اللہ ﷻ پھر لوگ کیسے جنیں گے اس زمانہ میں"؛ آپ ﷺ نے فرمایا "جو لوگ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور

اللّٰهُ اَكْبَرُ اور رُجْحَانُ اللّٰهُ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہیں گے ان کو کھانے کی حاجت نہ رہے

گی" (یہ تسبیح اور تہلیل کھانے کے قائم مقام ہوگی)۔ [سنن ابن ماجہ - جلد سوم - فتنون کا

بیان - حدیث ۹۵۷]

دوسرے گروہ متاثرین در حقیقت پہلے گروہ متاثرین سے بڑے فتنہ میں مبتلا ہے؛ کیونکہ اس طبقہ میں اس عظیم فتنہ کا احساس ہی مفقود ہے؛ بلکہ وہ اس فتنہ کو اپنے حق میں اللہ کا فضل قرار دیتے ہوئے مستقل اپنے معیار زندگی کی وسعت میں کوشاں ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ان کے رزق میں پہلے گروہ متاثرین کا رزق بھی امانتاً شامل کرتے ہوئے؛ نہ صرف ان کی جو ابد ہی کے دائرہ کو مزید وسیع فرما دیا ہے بلکہ اس امانت میں خیانت کا مداوا؛ انہیں اس دنیا میں اپنے رزق میں موجود دینی نعمتوں کی کمی سے ادا کرنا پڑے گا اور آخرت کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے اس عالمی فتنہ سے لڑنے کے لیے اس گروہ متاثرین کو پہلے گروہ متاثرین سے کہیں زیادہ ایمانی اور عملی مشقت برداشت کرنی پڑے گی؛ اگر وہ اپنی اخروی نجات کے لیے فکر مند ہے۔

اس مشقت کے آغاز کے لیے ایک مجرب نسخہ محض برادرانہ نصیحت کی بنیاد پر قلم بند کر رہا ہوں؛ جس سے

حسب ضرورت دونوں گروہوں کے افراد مستفید ہو سکتے ہیں؛ کہ جب بھی کسی خواہش یا غیر شرعی انفاق⁸ کی آرزو پیدا ہو تو اس کو پورا کرنے سے پہلے اسی کے مساوی مال صدقہ کرنا شروع کر دیں اور یہ صدقہ ان کے معمول کے انفاق فی سبیل اللہ سے سوا اور صرف اپنی خواہش یا غیر شرعی انفاق کے بدل کی نیت سے ہونا چاہیے۔ یہ عمل اولاً غیر شرعی انفاق میں ترجیحات کو مرتب کر دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر نیت میں اخلاص موجود ہو، تو رفتہ رفتہ غیر شرعی انفاق؛ شرعی انفاق میں تبدیل ہو جائے گا اور یہی مال کی نعمت فتنہ کے بجائے ان کے حق میں دینی نعمت قرار پانا شروع ہو جائے گی۔

یاد رہے کہ!!!! اس مضمون کے کل مخاطب وہ اہل ایمان ہیں؛ جو حلال و حرام اور دین میں جائز اور ناجائز کا احساس بھی رکھتے ہیں اور امکان بھر اس کی پاسداری میں عملی طور پر مصروف بھی ہیں۔ جو افراد حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی بحث سے ہی آزاد ہو چکے ہیں؛ ان کو اس دور میں نصیحت کرنا ایک ناممکن امر ہے [الامن ہداه اللہ الی صراط المستقیم]

✓ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا ہے۔"
[صحیح بخاری - جلد اول - خرید و فروخت کے بیان - حدیث 1980]

جن مضامین کے حوالہ جات اس مضمون میں شامل ہیں ان کے مطالعہ کے لیے راقم کی کتاب "قوا انفسکم و اہلیکم ناراً (ایڈیشن چہارم)" مندرجہ ذیل مقامات پر موجود ہے۔
آن لائن مطالعہ کے لیے؛

<https://www.meraqissa.com/book/1998>

پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ؛

<https://ketabton.com/index.php/books/15600>

https://archive.org/details/20230215_20230215_1019

لا الہ الا اللہ؛ لا الہ الا اللہ؛ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم تسليماً كثيراً

⁸ ملاحظہ فرمائیں "قوا انفسکم و اہلیکم ناراً (ڈیجیٹل ایڈیشن چہارم)" میں مضمون "اسراف، اہزار اور تکلف"

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**